

(مقبول برسر ہونے سے مستغنی ہونے کا نام ہے اور اس پر شکر ہے)

واعلنوا

۲۸۹

الانفال

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ

اور یہ جان لو کہ جب کسی طرح کی غنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو اس کا پانچواں حصہ

خُمْسَهُ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

اللہ کا اور رسول کا اور (رسول کے) قرابت داروں کا اور یتیموں کا

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللَّهِ

اور مسکینوں کا اور مسافروں کا (حق) ہے بشرطیکہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ

اور اس (مدد) پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی جس دن دو گروہوں کی مدد بھیر

أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ

ہو گئی تھی اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے (اس وقت کو یاد کرو) جبکہ

بِالْعُدُوِّ وَاللِّدْنِيَّاءِ وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَىٰ

تم نزدیک کی گھاٹی میں تھے اور وہ انتہائی سرے پر اور قافلہ

وَالرَّكِبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ

تم سے بچنے کی طرف تھا اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے

لَاخْتَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا

تو وقت میں سے تم ضرور اخلان کرتے لیکن (تمکو) ایک ایک دوسرے کے مقابل کر دیا تاکہ جو

كَانَ مَفْعُولًا لِّيهَاكَ مِنْ هَاكٍ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ

تھا اسکو اللہ پر ارادے اور تاکہ جو ہلاک ہو نوالا ہے وہ حجت (و دلیل) سے ہلاک ہو اور جو

يَجِيءُ مِنْ حِيٍّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ

زندہ رہنے والا ہے وہ بھی حجت (و دلیل) سے نفع دے اور ضرور اللہ سننے والا (اور) جاننے

عَلِيمٌ إِذْ يَرْيَكُمُ اللَّهُ فِي مَنَاكِبِ قَلِيلٍ

والا ہے (اس وقت کو یاد کرو) جبکہ اللہ تمہارے غائب میں کم کر کے دکھایا



سُورَةُ

Extensive marginal commentary in Urdu script surrounding the main text, providing detailed explanations and interpretations of the verses.





وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ مَدْيَنَ إِذْ جَاءَهُمْ بَرَاقَتٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ عَادٍ إِذْ جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ كَذَّبُوا بِهَا فَوَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ غَيْرِ مَوْتِهِمْ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ ثَمُودَ إِذْ جَاءَهُمْ بَرَاقَتٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ لُوطَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ نَجْدٍ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ مَدْيَنَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ عَادٍ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ ثَمُودَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ لُوطَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ نَجْدٍ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ

واعلموا

۲۹۲

الانفصال

إِلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ

فرعون والوں کی اور اُن سے پہلے والوں کی حالت ہوئی کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ لَنْ نَنصُرَهُمْ لَبِثًا شَرِيبًا

کاٹھا کر لیا اور اللہ نے اُنکے گناہوں کے بدلے میں اُنکو گرفتار کیا بیشک اللہ زبردست اور سخت

الْعِقَابِ ۝ ذَلِكِ يَاقُوتُ اللَّهُ لَمْ يَكُ مَغْبِرًا نِعْمَةً

عذاب نینے والا ہے یہ اسلئے کہ اللہ کسی نعمت کا جو کسی قوم کو عنایت کی ہو بدلنے والا

أَنْعَمَ عَلَيْهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يَغْيِرَ أَمَانًا بِأَنْفُسِهِمْ ۝

نہیں ہے جبکہ کہ وہ اپنے نفسوں کی حالت خود نہ بدل ڈالیں اور

أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ

بیشک اللہ سنینے والا (اور) جاننے والا ہے جیسے کہ فرعون والوں کی

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

اور اُن سے پہلے والوں کی حالت ہوئی لاکھ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کو جھٹلایا اور سب اُنکو

بِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرَضُوا عَنْ فِرْعَوْنَ ۝ وَكُلٌّ كَانُوا

اُنکے گناہوں کے بدلے میں ہلاک کر دیا اور فرعون والوں کو ڈوب دیا اور وہ سب کے سب

ظَالِمِينَ ۝ إِنَّ شَرَّ الدِّينِ وَأَبْغَدَ اللَّهُ الَّذِينَ

ظالم تھے بیشک اللہ کے نزدیک سب سے بدتر جو انات وہ لوگ ہیں جو کافر ہو گئے

كَفَرُوا وَأَفْهَمَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ عَاهَدتْ مِنْهُمْ

اور ایمان نہیں لاتے جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر

ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مِرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝

وہ اپنے عہد کو ہر مرتبہ توڑتے دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے

فَمَا تَتَّقُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرُّ دُبُرِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ۝

پس اگر تم اُنپر لڑائی میں قابو پا جاؤ تو اُنکے ذریعے اُنکو جو اُنکی پشتی پر ہیں

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ مَدْيَنَ إِذْ جَاءَهُمْ بَرَاقَتٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ عَادٍ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ ثَمُودَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ لُوطَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ نَجْدٍ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ مَدْيَنَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ عَادٍ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ ثَمُودَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ لُوطَ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ نَجْدٍ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كَذَّبُوهَا فَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلِينَ





لَنبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُغْنٰى فِي الْاَرْضِ

دو ملک میں غالب نہ آجائے قیدیوں کا ہونا مناسب نہیں ہے

تُرِيْدُوْنَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يَرِيْدُ الْاٰخِرَةَ

تم سامان دنیا کے خواستگار ہو اور خدا تمہارا آخرت چاہتا ہے

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ لَوْ لَا كَتَبَ مِنْ اللّٰهِ سَبَقٌ

اور اللہ زبردست (اور) حکمت والا ہے اگر تحریر خدا پہلے سے نہ ہو گئی ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا

مَسْكُومًا فَمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ فَكُلُوْا مِمَّا

اُس کے بارے میں تمہارا سخت عذاب واقع ہوتا اب جو کچھ تم نے بطور

غَنَمٍ حَلٰلًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ

قیمت لیا ہے اس میں حلال و طیب بھرا (ہے) اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ بڑا بخشنے والا (اور)

رَحِيْمٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِيْ اَيْدِيكُمْ مِّنْ

رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی قیدیوں میں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں اُن سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارا دلون میں نہ لے

الْاَسْرٰى اِنْ يَعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ

پائیگا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اُس سے بہتر تم کو دیدیگا اور

خَيْرًا مِّمَّا اَخَذْتُمْ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ

تمہارے گناہ بخشدیگا اور اللہ بڑا بخشنے والا (اور) رحم کرنے والا

رَحِيْمٌ ۝ وَاِنْ تُرِيْدُوْا اٰخِيَانَتَكُمْ فَقَدْ خَانَ اللّٰهُ

ہے اور اگر وہ تم سے خیانت کا ارادہ کرے تو وہ اللہ سے تو پہلے ہی

مِنْ قَبْلٍ فَاَمْكِنْ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ اِنَّ

خیانت کر چکے ہیں اور اسی سے اُسے اپنے قلوب پر دیدیا اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے بیشک

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَاَوْجَاهُهُمْ لِلدِّمِيَّةِ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور رُو خدا میں اپنے مال اور جان سے

میں فرمایا کہ جو کچھ تم نے لیا ہے اس میں حلال و طیب بھرا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور اگر وہ تم سے خیانت کا ارادہ کرے تو وہ اللہ سے تو پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں اور اسی سے اُسے اپنے قلوب پر دیدیا اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور رُو خدا میں اپنے مال اور جان سے

ہجرت

مذکورہ

میں فرمایا کہ جو کچھ تم نے لیا ہے اس میں حلال و طیب بھرا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور اگر وہ تم سے خیانت کا ارادہ کرے تو وہ اللہ سے تو پہلے ہی خیانت کر چکے ہیں اور اسی سے اُسے اپنے قلوب پر دیدیا اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور رُو خدا میں اپنے مال اور جان سے









كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ

اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ مشرکین کا کوئی عہد رہے کیونکہ سوائے

عِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ

انکے جن سے تم نے مسجد الحرام کے پاس عہد کر لیا تھا پس جب تک

الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ

وہ تمہارے ساتھ اسی طرح قائم رہیں تم بھی انکے ساتھ اسی طرح قائم رہو

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا

بیشک اللہ پر ہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے یہ عہد رہتا کیونکہ حالانکہ اگر (ابھی) وہ

عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ يُرْضُونَكُمْ

تیرے علیہ پاجامین تو نہ تمہارے بارے میں قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد و پیمانہ کا وہ زبان باتوں

بِأَقْوَابِهِمْ وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ

سے ٹکوراہنی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ انکے دل خوش نہیں ہیں اور ان میں سے اکثر

فَاسِقُونَ ۝ إِشْرُوا يَا أَيُّهَا اللَّهُ ثَمَنًا قَلِيلًا

نافرمان ہیں انہوں نے خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیلی

فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ط انْهَضُوا مَا كَانُوا

اور لوگوں کو اس کے راستے سے روکا بیشک جو عمل وہ کر رہے ہیں (یہ) بہت ہی

يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً

ہے وہ کسی مؤمن کے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ عہد و پیمانہ کا

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا

اور وہ بڑے ہی زیادتی کرنے والے ہیں پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز

الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأَخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ ط

پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں

بیشک



وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ

عَلَا نَكَ اللهُ سَنَ اِهِي اُن لُو كُون كُو جَنُون سَنَ تَم مِي ن سَع جَاهِد كُ اِهِي جَانِحَانِي ن هِي

وَلَمْ يَخُذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا

اُو ر سُو لَ اِ نْ تَه كَلِمَتَا رَسُو لٍ اُو ر اَمَان دِي نَ وَا لُو ن كَ اُو ر كُ سِي كُو رَا ز نَا ر نَهِي ن

الْمُؤْمِنِينَ وَبِحَبَابٍ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَا يَا هِي اُو ر جُو كُ ح تَم كَر تَه هُو اِ نْ تَه اُس سَ بَا خِي ر هِي

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ

مُشْرِكُون كَا يَ حَق نَهِي ن هِي كَ جَس حَال مِي ن وَ هِ اِبْنِي ذَات كَ لَ كُنُ كَ مُخْتَر هُو ن وَ هَذَا

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

اِي سَجْد وَا كُو اَبَا د ر كُهِي ن اُنْ سَب اِعْمَال اِمَارَت هُو كُ نَ

وَفِي النَّارِهِمْ خَالِدُونَ ۝ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ

اُو ر وَ هِ تَم مِي ن هِي مِ شِي ه (هِي شِي ه) رِ سَنَ وَا لَ هُو كُ نَ اِ نْ تَه كِي سَجْد وَا ن كُو تُو دَه اَبَا د كُو سَ

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَ

جُو اِ نْ تَه پُر اُو ر قِيَامَت كَ دِن پُر اِيْمَان ر كُ نَ اُو ر نَا ز پُر تَ اُو ر

آتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ اُولَٰئِكَ

زَكَاة دَسَ اُو ر سُو اِ نْ تَه كَ اِ نْ تَه كَ كُ سِي سَ نُو رُ سَ پَس اُنْ هِي لُو كُون كَا نَسَبَت پُر اِيْمَان

أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ اجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ

كَ وَ هِ وَا يَت بَا نْتَه هُو جَانِي ن كَا تَنَ مَاجُون كَا بَانِي بَلَا نَا

الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ

اُو ر سَجْد اِحْرَام كَا اَبَا د ر كُهْنَا اُس شَخْ سَ بَرَابَر كُر دِيَا جُو اِ نْ تَه پُر

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اُو ر قِيَامَت كَ دِن پُر اِيْمَان لِيَا اُو ر جَنَ رَا هِ خِدَا يِي ن جَاهِد كِيَا

اور قیامت کے دن پر ایمان لیا اور جنے راہ خدا میں جاد کیا

Handwritten marginal notes in Urdu script, including a large 'سبحان' (Subhan) written vertically. The notes contain various religious and philosophical reflections.

سبحان

Handwritten marginal notes in Urdu script at the bottom of the page, continuing the commentary on the verses.



لَقَدْ قَرَّبْتُمْ هَؤُلَاءِ بِتِجَارَتِهِمْ مِّمَّا كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ مُخَلِّصُ ذُو النُّفُوسِ الْفَاسِقِينَ

جمع کر لے ہیں اور وہ تجارت جیسی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو

وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اور وہ مکانات جو تم کو پسند آگے ہیں (یہ سب چیزیں) اللہ سے اور اس کے رسول سے

وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ

اور لڑنے میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ پیاری ہیں تو (جہالت میں ہو) رہو جہان تک کہ اللہ کا

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ لَقَدْ نَصَرَكُمُ

کو ظاہر کر دے اور اللہ نافرمان لوگوں کی راہبری نہیں فرماتا جبکہ اللہ نے تمہاری

اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۝ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ جَعَلْتُمْ

جہت سے سو قوتوں پر مدد کی (خاص کر) حنین کے دن جبکہ تمہاری کثرت نے

كثرتكم فلم تعين عنكم شيئا وضاعت عليكم

تم کو نادران کر دیا تھا پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تمہارے

الْأَرْضِ بِمَا رَحِبَتْ ثُمَّ لَكُنْتُمْ الْمُدْبِرِينَ ۝ ثُمَّ

تنگ ہو گئی پھر تم پیچہ دکھا کر بھاگے پھر

أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

اللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول اور مومنین پر نازل کی

وَأَنْزَلَ جُنُودَ أَلَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور ایسے لشکر اتارے جو تم نے (کبھی) اندک دیکھا تھا اور کافروں کو عذاب دیا

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ ثُمَّ تَوَبَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ

اور کافروں کی سزا ایسی ہی ہے پھر اس کے بعد اللہ جیسا ہے توبہ

ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

اور اللہ جیسا چاہے (توبہ) والا اور رحیم کر نوالا ہے

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the main text. The notes are written in a dense, cursive style, filling the left margin of the page.

Handwritten marginal note on the left side of the main text block.



Handwritten marginal notes in Urdu script, continuing the commentary from the left margin.

Handwritten notes at the bottom of the page, likely a summary or concluding remarks.

بسم الله الرحمن الرحيم  
 انما ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقولوا بالحق والعدل  
 انما ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقولوا بالحق والعدل  
 انما ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقولوا بالحق والعدل

واعلموا العوبة

يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس  
 فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا  
 وان خفتهم عيلة فسوف يغنيكم الله من  
 فضله ان شاء الله عليهم حكيم  
 الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر  
 ولا يخرمون ما حرّم الله ورسوله ولا يبنيون  
 دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا  
 الجزية عن يدي وهم صاغرون  
 عزير بن الله وقالت النصرى المسيحية ابن الله ذلك  
 قولهم يا فواهمم يضاؤون قول الذين كفروا  
 من قبل قال لهم الله اني يوكفون اخذوا  
 بائين يحيى بنات بن خذرا لعلت كرسه كرسه بيلع بيلع جلت بن اسون خذرا كرسه كرسه

انما ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقولوا بالحق والعدل  
 انما ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقولوا بالحق والعدل  
 انما ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقولوا بالحق والعدل

انما ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقولوا بالحق والعدل  
 انما ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقولوا بالحق والعدل  
 انما ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقولوا بالحق والعدل



اَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحَ

اپنے عالمن اور درویشوں کو اور مسیح ابن مریم کو خدا

ابن مَرْيَمَ وَمَا اُمُّرُوْا۟ اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاحِدًا

بنایا ہے حالانکہ انکو کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا سوا اسکے کہ خدا واحد کی عبادت کرتے ہیں

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ يَرْيَدُوْنَ

جسکے سوا کوئی معبود نہیں اور جن جن چیزوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سب اسکی اتنا ترہ و توبہ

اَنْ يُّطْفِقُوْا نُوْرًا لِّلّٰهِ يَاقُوْا هَهُمْ وَيٰۤاَبِي اللّٰهِ اَلَا اَنْ

چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے اپنے لئے سے (پھونک مار مار کر) بجھا دیں اور اللہ کو اور کچھ نہ ٹھہریں سوا

يَتِمَّ نُوْرُهُ وَاُوْكَرَ الْكٰفِرُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِي

کہ اپنے نور کو پورا کرے کہ کافروں کو بڑا لے وہ (خدا) ہی توبہ ہے جسے

اَرْسَلَ رَسُوْلًا بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسکو تمام

عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۝ وَاُوْكَرَ الْمَشْرِكُوْنَ ۝

ادیان پر غالب کر دے کہ مشرکوں کو بڑا لے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَابِ

اے ایمان لانیوالو ضرور بہت سے علماء اور درویش لوگوں

وَالرُّهْبٰنِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ

کے مال ناحق کھا کھاتے ہیں اور (انکو)

وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ

راہ خدا سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

جمع کرتے رہتے ہیں اور اسکو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے

Handwritten marginal notes in Urdu script, including phrases like 'توبہ', 'سبحانہ', and 'تفہیم'.

تو کسی غرض سے کہیں انوائس میں خدا کا اشارہ ہے کہ ان نوائس میں اسے صرف کر دے۔ اس غرض سے نہیں دیا ہے کہ اسے جوڑے رکھو (یعنی حدیث میں جیسے میں ملاحظہ ہوں)

عالم اسلام کی تاریخ اور اس کی ترقی و ترقی کے سلسلے میں جو بڑے بڑے علمائے کرام نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے ان کی خدمات کو یاد رکھنا اور ان کی تعلیمات کو اپنانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔

التوبہ

۳۰۶

واعلموا

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا

سو تم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو (اُس دن کے متعلق) جس دن وہ سونا چاندی اور

فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ

میں تپایا جائیگا پھر اُس کے ذریعہ سے ان کی پیشانیوں اور اُن کے پہلو اور اُن کی پشتیں اُچی جائیں گی (اور

وَكُفْرُهُمْ هُمْ هَذَا مَا كَلَّمْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فَذُوقُوا

اُن سے یہ کہا جائیگا کہ یہی جو تم اپنی ذات کے لئے جمع کیا کرتے تھے پس جیسا تم جمع کیا کرتے تھے

مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ

(دو ماہی اب) اس کا مزہ چکھو بیشک خدا کے نزدیک مہینوں کی گنتی جس دن

اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

سے خدانے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے خدا کی کتاب میں

وَالْاَرْضِ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حَرَمٌ ذٰلِكَ الَّذِيْنَ اَقِيْمُوْهُ

بارہ (ہی) مہینے ہیں جن میں سے چار محترم ہیں سیدھا سادہ قاعدہ یہی ہے

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِمْ اَنْفُسَكُمْ وَاَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ

پس تم ان مہینوں کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے لڑو جو کہ لوگو

كَافَّةً كَمَا يَقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ

ہم ہے کہ وہ تم سے لڑے ہو کہ لڑتے ہیں اور یہ سمجھ لو کہ اللہ پر ہرگز کاروں کا

الْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّمَّا النّٰسُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ

ساتھی ہے سوائے اسکے نہیں کہ توبہ کا مہینہ کفر کا اور بڑھانا ہے جو لوگ کافر

بِهَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيُحِلُّوْنَہٗ اٰمًا وَيُحَرِّمُوْنَہٗ

ہو گئے ہیں اسکے ذریعہ سے اور گمراہ کئے جاتے ہیں کہ کسی سال تو وہ اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور

عَامًا لِّيُوَاطَّؤُا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا

سال ہی کو حرام قرار دیتے ہیں تاکہ خدا کے محترم کو جو مہینوں کی تعداد سے مطابقت کر کے اللہ نے جو کچھ حرام قرار دیا ہے

یوں لوگو! تم کو اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت چار مہینے عید کے طور پر عطا فرمائے ہیں۔ ان مہینوں کو حرام نہ کہو اور ان میں سے کسی کو بھی حلال نہ کہو۔ اگر تم ان مہینوں کو حرام نہ کہو اور ان میں سے کسی کو بھی حلال نہ کہو، تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور تم کو اللہ کی رحمت سے لے کر اللہ کی رحمت تک سب کچھ عطا فرمائے گا۔

مکرم

یوں لوگو! تم کو اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت چار مہینے عید کے طور پر عطا فرمائے ہیں۔ ان مہینوں کو حرام نہ کہو اور ان میں سے کسی کو بھی حلال نہ کہو۔ اگر تم ان مہینوں کو حرام نہ کہو اور ان میں سے کسی کو بھی حلال نہ کہو، تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور تم کو اللہ کی رحمت سے لے کر اللہ کی رحمت تک سب کچھ عطا فرمائے گا۔

واعلموا

۵۰

التوبة

حَرَّمَ اللَّهُ زِينَةَ أَهْلِ بَيْتِهِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْجَوْنَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتَلُونَ

أَلَى الْأَرْضِ ۚ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ

فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۚ

إِلَّا تَنْفِرُوا يَعْذِبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ وَيَسْتَبَدِلُ قَوْمًا

غَيْرَكُمْ وَلَا تَصْرُوهُ شَيْئًا ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ

لَا تَتَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

ثَانِي اثْنِينَ إِذْ هَمَّ فِي الْعَارِ لِيَقُولَ لِيَصَاحِبِهِ

لَا تُخْزِنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَانزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

وَأَيْدِيَهُمْ يُجَنِّدُ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ

أَشْرَكُوا رِجْسًا يَلْعَنُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عِلْمٌ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

اللَّهُ يَوْمَ يُدْعَىٰ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا يَأْتُوا بِنُورٍ مُّبِينٍ ۚ

يُخْرَجُونَ مِنْ حَتَّىٰ يَخْرُجُوا إِلَىٰ نُورٍ مُّبِينٍ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ۚ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَخْرُجُونَ فِي لُبْسٍ جَنَائِبٍ يَخْرُجُونَ مِنْ حَتَّىٰ

يَخْرُجُوا إِلَىٰ نُورٍ مُّبِينٍ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

Handwritten notes at the top of the page, including the title 'التوبة' and various verses in smaller script.

Extensive handwritten commentary on the left side of the page, providing detailed explanations of the verses and their meanings.

Vertical handwritten notes between the main text columns, likely serving as a bridge between the two columns of commentary.

Handwritten notes on the right side of the page, continuing the commentary and providing additional insights.





اور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا سے محفوظ رکھے گا اور اسے اپنی رحمت سے نوازا جائے گا۔

واعلموا (۱۰۳) التوبہ

سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۝

میں تو یہ ٹہری گئے اور جہنم سب کافروں کو یقیناً گھیر لینے والی ہے

إِنَّ تَصَبُّكَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُوْهُمَ وَأَنَّ تَصِيْبَكَ

اگر تم کوئی خیر و خوبی پہنچتی ہے تو وہ انکو بڑی گنتی ہے اور اگر تمہارے کوئی مصیبت

مَصِيْبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَ

آپڑتی ہے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا اور

يَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ۝ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا آلٌ

خوش خوش (دماغ سے) چل دیتے ہیں تم یہ کہو کہ سوائے اُسکے جو اللہ نے ہمارے

مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَىٰ اللَّهِ

لے لکھی ہے اور کوئی مصیبت ہمارے گھر گرنے نہیں سکتی وہ ہمارا حاکم ہے اور ہر مومن

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوا

کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہتے تم کہدو کہ ہمارے بارے میں تم اور کس چیز کا انتظار

بِنَارِ الْأَحْدَىٰ الْحُسَيْنِ وَنَحْنُ نَرَبَّصُ بِكُمْ

کر رہے ہو سوائے اسے کہ دو فرعون میں سے ایک حاصل ہوا یعنی شہادت طایفہ پر جانے والے اور

أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَ بِنَارٍ

ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ تمکو اللہ اپنی طرف سے کوئی عذاب دے یا تمہارے ہاتھوں کو (سزا دلوانے)

فَتَرَبَّصُوا لِمَا مَعَكُمْ مَتَرَبَّصُونَ ۝ قُلْ أَنْفِقُوا

سو تم انتظار کئے جاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ساتھ انتظار کر رہے ہیں تم کہدو کہ تم بخوشی خرچ کرو

طَوَّعًا أَوْ كَرِهًا لَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ

یا ناراض ہو کر (تمہاری یہ خدمت) قبول کبھی ہی جائیگی بیشک تم ناراض

قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ

لوگ ہو اور اس بات سے کہ انکا خرچ کرنا قبول کیا جائے کوئی

اور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا سے محفوظ رکھے گا اور اسے اپنی رحمت سے نوازا جائے گا۔

اور یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے سزا سے محفوظ رکھے گا اور اسے اپنی رحمت سے نوازا جائے گا۔

فَقْتَحُوا لَنَا فَكْفَرُوا بِاللَّهِ وَيُرْسُولِهِ وَإِلَّا

کیا ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا یقینا انکار کیا اور نماز

يَاتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ وَلَا يَنْفِقُونَ

کو نہیں آتے ہیں مگر اس طرح سے کہ وہ لگسائے ہوئے ہوتے ہیں اور خرچ کچھ نہیں کرتے

إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ۚ فَلَا تَعْمَلُكُمُ أَمْوَالُهُمْ وَلَا

مگر اس طرح سے کہ وہ بیدل ہوتے ہیں پس تمکو نہ اُنکے مال تعجب میں ڈالیں اور نہ

أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي

اُنکی اولاد اللہ تو چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے اُنکو زندگانی دنیا میں

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

عذاب دے اور اُنکی جانیں اس حال میں اُنکل جائیں کہ وہ کافر ہی ہوں

وَيُخَلِّفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ

اور وہ خدا کی قسم گھاگھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں

وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۚ لَوْ يَجِدُونَ مَبْجَاؤًا

بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈر پوک ہیں اگر وہ کوئی جا بے پناہ یا غار یا

مَعْرَاتٍ أَوْ مَدَاخِلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ

گھسنے کی جگہ پالیں تو بھاگ دوڑ کر اُسکی طرف چلے جائیں

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا

اور ان میں سے کوئی کوئی ایسا بھی ہے جو (تفسیر) صدقات کے بارے میں تم پر الزام

مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ

لگا تپے پس اگر ان میں سے اُنکو دیا جائے تو راضی راضی ہیں اور اگر ان میں سے اُنکو نہ

يَسْتَخْفُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

دیا جائے تو اسی وقت برکات مان جاتے ہیں اور کاش وہ اسپر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول

Handwritten marginal notes in Urdu script on the left side of the page, providing commentary on the verses.



اگر کوئی شخص اپنے بارگاہ میں بیک کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عطاوارت ملے گی۔ اگر وہ اپنے بارگاہ میں بیک کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عطاوارت ملے گی۔

اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت و مغفرت فرمائے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت و مغفرت فرمائے۔

واعلموا (۳۱۲) التوبة

وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

الصَّادِقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ

عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ

النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ آذَنٌ قُلُّنَا خَلَرٌ

تَكْمِيْقٌ مِّنَ اللَّهِ وَيَوْمٌ مِّنَ الْيَوْمِ مَنِينٌ وَرَحْمَةٌ

لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ

رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَخْلِفُونَ

بِاللَّهِ لَكُمْ لِرِضْوَانِهِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ

مَعْلُومٌ

مَعْلُومٌ

مَعْلُومٌ

مَعْلُومٌ

اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت و مغفرت فرمائے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت و مغفرت فرمائے۔

اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت و مغفرت فرمائے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت و مغفرت فرمائے۔



واعلموا

۱۳

التوبہ

اِحْتِقَانٌ يَرْضَوْنَ اِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ اَلَمْ يَعْلَمُوا

ایکے زیادہ سخت ہیں کہ اگر یہ مومن ہیں تو انکو راضی کہیں کیا انہوں نے اتنا نہ تھا

اِنَّهُ مِنْ يَحْيَادِ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهُ فَاَنْ لَّهٗ نَارُ

کہو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اسی کے لئے تو دوزخ کی

جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ذٰلِكَ اَلْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ۝ يَحْذَرُوْ

آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیگا یہی تو سب سے بڑی رسوائی ہے منافق اس سے

الْمُنْفِقُوْنَ اِنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ مِّنْهُم بِمَا

ڈرتے رہتے ہیں کہ (مباردا) ان کے برخلاف کوئی ایسی سورت نازل کی جائے جو لوگوں کو اس سے

فِيْ قُلُوْبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزَءُ وَاِذَا اَنَّ اللّٰهَ فَخْرٌ

جیسا ان کے دلوں میں ہے اگاہ کر دے تم کہدو کہ تم ہی اڑا لے جو جس چیز سے تم ڈرتے ہو اللہ ضرور

مَا تَحْذَرُوْنَ ۝ وَلٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُوْلُوْا اِنَّمَا

اسکو ظاہر کر کے رہیگا اور اگر تم اسے دریافت کرو گے تو وہ ضرور یہ کہہ دینگے کہ ہم تو

كُنَّا خَوْضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبٰ اللّٰهِ وَاٰتِيْهِ وَرَسُوْلُهُ

مرف بات چیت اور ہنسی مذاق کر رہے تھے تم یہ کہدو کہ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول

كُنْتُمْ تَسْتَهْزَءُوْنَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوْا وَاَقْد كَفَرْتُمْ

کا مذاق کر رہے تھے چلے والے نہ کرو تم ایمان لانے کے بعد یقیناً کافر ہو گئے ہو

بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اِنْ نَّعَفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ

اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دینگے

نَعَذِّبُ طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

تو ایک گروہ کو سزا بھی ضرور دینگے اسلئے کہ وہ مجرم ہیں

الْمُنْفِقُوْنَ وَالْمُنْفِقَتْ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہمجنس ہیں

یاقہ زین

توبہ

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and explanations.



قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ اِبْرَاهِيمَ وَاصْحَابِ

نوح کی قوم کی اور عاد کی اور ثمود کی اور ابراہیم کی قوم کی اور مدین والوں

مَدِينٍ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اتَّهَمَ رَسُولَهُم بِالْبَيْتِ فَمَا

کی اور اٹھی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں کی ان کے رسول ان کے پاس گئی دلیلیں لیکر

كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

آئے تھے پس اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنے ظلم کرے لیکن وہ اپنی جانوں پر اپنے ظلم توڑا کرتے تھے

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے حامی ہوا کرتے ہیں

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ

وہ نبی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے (برابر) منع کرتے ہیں اور

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

ناز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت

رَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

کرتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ ان پر رحمت کریگا بیشک اللہ زبردست (اور)

حَكِيمٌ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

حکمت والا ہے اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ

جگہ نیچے ندیاں بہتی ہوگی اور ان میں ہمیشہ (ہمیشہ) رہنے والے ہونگے اور دائمی

طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ فِي ذَوْنِهَا مِنْ ثَمَرَاتٍ مُتَبَدِّلَةٍ

بہشتوں میں اچھے اچھے مکانوں کا بھی وعدہ کیا ہے اور اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کر ہے

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ

یہی تو بڑی کامیابی ہے اے نبی کفار اور

تفسیر

۳۱۵

Handwritten marginal notes in Urdu script, providing commentary and explanations for the main text.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Handwritten marginal notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

انگلیز کے لئے جگہ تھی تو وہ انکو لیکر ایک مادی میں اتر گیا۔ اب جمہور جماعت سے بھی محروم ہو گیا اور حضرت نے صدمہ و مصول کرنے والے کو اس کے پاس بھیجا۔

Handwritten marginal notes in Urdu script, likely providing commentary or additional context for the main text.

واغلموا (۳۱۶) التوبة

الْكَفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَمَهُمْ جَهَنَّمَ

منافقین سے جاہد کرو اور اُن پر سختی کرو اور انکا ٹھکانا جہنم ہے

وَلَيْسَ الْمَصِيرُ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ

اور وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا

قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَابْعَدُوا سُلَامَتَهُمْ

حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ ضرور کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے اور

هُمُ أَيْمَانُ بِنَالِ الْوَاءِ وَمَا نَقَمُوا لِأَن أَعْتَمَهُمُ اللَّهُ

ایسی بات کا قصد کیا جسے کرنے کے اور وہ اس سے تو بگڑے کہ اللہ نے اور اُن کے رسول

وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ

نے اپنے فضل سے انکو عفو کر دیا پس اگر وہ توبہ کر لیتے تو اُن کے لئے بہتر ہوگا

وَإِن يَتُوبُوا أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا لِّمَن فِي الدُّنْيَا

اور اگر وہ روگردان ہو گئے تو اللہ انکو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب

وَالْآخِرَةُ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

ممدد کرے گا اور زمین میں نہ انکا کوئی حامی ہوگا اور نہ مددگار

نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن اٰتٰنٰهُم فِضْلًا

اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے

Extensive handwritten marginal notes in Urdu script, providing detailed commentary and explanations for the verses.

Handwritten notes at the bottom of the page, continuing the commentary.

مَا وَعَدُوهُ وَيَمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

جو وعدہ انہوں نے خدا سے کیا تھا اسکے خلاف کیا اور (دوسرا) اسلے لکھوٹ بولا کرتے تھے۔ انہوں نے اتنا نہ سمجھا کہ

يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝

اسلے اسکے راز کو بھی جانتا ہے اور اُنکی سرگوشیوں کو بھی اور یہ کہ اللہ بڑا غیب کا جاننے والا ہے

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي

جو لوگ مومنین میں خوش دلی سے خیرات کرنے والوں کو عیب لگاتے ہیں

الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ

اور جو اپنی محنت کے سوا کچھ دیکھتے نہیں آتا انکو بھی عیب لگاتے ہیں

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

پھر (اس طرح) سب سے بہتے ہیں اللہ ان سب کی ہنسی اڑا ایسا اور اُنلے لئے دردناک عذاب

أَلِيمٌ ۝ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ

(دیکھی ہے تم اُنلے لئے دعا عرضت مانگو یا تم اُنلے لئے دعا عرضت نہ مانگو اگر تم

تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

اُنلے لئے ستر مرتبہ بھی دعا عرضت مانگو گے تو بھی اللہ اُنکو ہرگز ہرگز بخشے گا

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

یہ اسلے کہ انہوں نے خدا کا اور اُنکے رسول کا انکار کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کی

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ فَرِحَ الْخَلْفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ

راہبری نہیں فرماتا پیچھے رہ جانے والے خدا کے خلیفان اپنے بیٹھ رہنے سے

خَلَفَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

خوش ہوئے اور اس سے انہوں نے نفرت کی کہ راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ

جہاد کرتے اور لوگوں سے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو

تسخر

۱۰  
۱۷

Handwritten marginal notes in Urdu script surrounding the main text, providing commentary and additional verses.

اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے  
 اس کا بدلہ ہو  
 اور اگر اللہ تمکو انہیں سے کسی گروہ کے پاس واپس  
 لائے اور وہ تم سے بچنے کی اجازت مانگیں تو تم کہدینا کہ تم ہرگز ہرگز سیرا ہراہو کہ  
 نہ ٹھکے اور میرے ساتھ ہو کہ کسی دشمن سے نہ لڑو گے تم پہلی ہی دفعہ بیٹھ رہنے سے  
 راضی ہوے اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو  
 اور اسے رسول (جب) انہیں سے کوئی مرجائے تو تم کہیں اس کے جواز کی نماز نہ پڑھا اور نہ اس کی  
 قبر پر کھڑے ہونا بیشک انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ نافرمانی کی  
 حالت میں مر گئے ہیں اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمکو تعجب میں  
 نہ ڈالیں سوائے اسکے نہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعہ تمکو  
 عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں لگیں کہ وہ کافر ہوں

التوبة

واعلموا

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝

تم یہ کہو کہ آتش دوزخ کی گرمی تو بہت بڑھی ہوئی ہے کاش یہ سمجھتے ہوتے

فَلِيَضَكُوا أَقْلِيًّا وَلَيَكُنْ أَكْثَرًا جَزَاءً لِّمَا

پس انہیں چاہئے کہ ہنسین تو تھوڑا اور روئین بہت سا کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے

كَانُوا يُكْسِبُونَ ۝ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ

اُس کا بدلہ ہو پھر اگر اللہ تمکو انہیں سے کسی گروہ کے پاس واپس

مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوا لِيَخْرُجَ قُلٌّ لِّنْ خُرُوجِ مَعِيَ

لائے اور وہ تم سے بچنے کی اجازت مانگیں تو تم کہدینا کہ تم ہرگز ہرگز سیرا ہراہو کہ

أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ

نہ ٹھکے اور میرے ساتھ ہو کہ کسی دشمن سے نہ لڑو گے تم پہلی ہی دفعہ بیٹھ رہنے سے

بِالْقَعْدِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَأَقْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ۝

راضی ہوے اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ

اور اسے رسول (جب) انہیں سے کوئی مرجائے تو تم کہیں اس کے جواز کی نماز نہ پڑھا اور نہ اس کی

عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوا

قبر پر کھڑے ہونا بیشک انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ نافرمانی کی

وَهُمْ فَسِقُونَ ۝ وَلَا تَعْجَبْ أَمْوَالَهُمْ وَ

حالت میں مر گئے ہیں اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمکو تعجب میں

أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا

نہ ڈالیں سوائے اسکے نہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعہ تمکو

فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝

عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں لگیں کہ وہ کافر ہوں

اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے  
 اس کا بدلہ ہو  
 اور اگر اللہ تمکو انہیں سے کسی گروہ کے پاس واپس  
 لائے اور وہ تم سے بچنے کی اجازت مانگیں تو تم کہدینا کہ تم ہرگز ہرگز سیرا ہراہو کہ  
 نہ ٹھکے اور میرے ساتھ ہو کہ کسی دشمن سے نہ لڑو گے تم پہلی ہی دفعہ بیٹھ رہنے سے  
 راضی ہوے اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو  
 اور اسے رسول (جب) انہیں سے کوئی مرجائے تو تم کہیں اس کے جواز کی نماز نہ پڑھا اور نہ اس کی  
 قبر پر کھڑے ہونا بیشک انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ نافرمانی کی  
 حالت میں مر گئے ہیں اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمکو تعجب میں  
 نہ ڈالیں سوائے اسکے نہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعہ تمکو  
 عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں لگیں کہ وہ کافر ہوں

اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے  
 اس کا بدلہ ہو  
 اور اگر اللہ تمکو انہیں سے کسی گروہ کے پاس واپس  
 لائے اور وہ تم سے بچنے کی اجازت مانگیں تو تم کہدینا کہ تم ہرگز ہرگز سیرا ہراہو کہ  
 نہ ٹھکے اور میرے ساتھ ہو کہ کسی دشمن سے نہ لڑو گے تم پہلی ہی دفعہ بیٹھ رہنے سے  
 راضی ہوے اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو  
 اور اسے رسول (جب) انہیں سے کوئی مرجائے تو تم کہیں اس کے جواز کی نماز نہ پڑھا اور نہ اس کی  
 قبر پر کھڑے ہونا بیشک انہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ نافرمانی کی  
 حالت میں مر گئے ہیں اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمکو تعجب میں  
 نہ ڈالیں سوائے اسکے نہیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعہ تمکو  
 عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں لگیں کہ وہ کافر ہوں

وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً أَنْ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا

اور جب کوئی سورت (اس حکم کے ساتھ) نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے

مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولَاطُولٍ مِنْهُمْ وَ

ساتھ ہو کر جہاد کرو تو انہیں سے جو صاحبانِ مقدرت ہیں وہ تم سے اجازت مانگتے ہیں اور

قَالُوا ذَرْنَا لِنُكِنَّ مَعَ الْقَاعِدِينَ ۚ رَضُوا بِأَنْ

کہتے ہیں کہ ہم جو چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ

يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ

مورتوں کے ساتھ رہیں اور ان کے دلوں پر چھاپا لگا دیا گیا ہے پس وہ

لَا يَفْقَهُونَ ۚ لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

(کہو) سمجھتے نہیں لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے

مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيكُمْ

ہیں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے لئے

لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ز وَأُولِيكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

سب خوبیاں ہیں اور وہی (پوری پوری) فلاح پانوالے ہیں

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

اللہ نے ان کے لئے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں

خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ

انہیں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہنے والے ہونگے یہی تو بڑی کامیابی ہے

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ

اور بدوؤں میں سے عذر گزراوے آئے کہ انکو بھی (بیٹھ رہنے کی) اجازت دی جائے

لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ

اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا اور بیٹھ رہے

لے مع الخوالف ذالک خالدی کی مع بر اور تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے مع الخوالف کے معنی اللہ و رسول ہیں معی اور توحیح کا ساتھ ۱۲ طے اور لیکر کلمہ الخیرات بیان فرماتے ہیں



۱۲

۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

